



# SECURITIES & EXCHANGE COMMISSION OF PAKISTAN

## **PRESS RELEASE**

For immediate release

June 18, 2021

### **SECP issues Guidelines for Green Bonds Issuance in Pakistan**

ISLAMABAD, June 18: The Securities and Exchange commission of Pakistan (SECP) has issued guidelines for issuance of green bonds in Pakistan. The Guidelines provide an easy and efficient procedure for issuance with concise offering document/prospectus.

All issuers who are eligible to issue debt securities, including sukuk either by way of public offer or private placement are eligible to issue green bonds while ensuring compliance with applicable regulatory framework.

The issuance of Green Bonds will help in initiating sustainable projects for combating climate change besides facilitate issuers of debt securities to diversify their source of financing. It will also provide an additional financing instrument to those investors who are conscious of financing/re-financing projects that contribute to the environment.

To qualify as a green bond, the proceeds must finance or refinance green projects or activities that bring energy efficiency, protect environment, utilize renewable energy, prevent and control pollution, use natural resources, projects related to land management, pollution free transportation, wastewater and water treatment, etc.

As per the green bond database (*source: [www.climate.net](http://www.climate.net)*), Green Bonds worth US\$ 1.2 trillion have been issued by different countries till date including *US\$ 297 billion in 2020 and US \$ 130.9 billion in 2021(till April)* showing an increasing trend. As per International Capital Market Association (ICMA)'s database, a total of 640 issues of Green Bonds have been made by 60 countries.

Green bonds can be issued based on globally accepted standards/goals such as the International Capital Market Association (ICMA)'s Green Bond Principles, the UN's Sustainable Development Goals (UN SDGs) etc.

The SECP guidelines for green bonds are available at its official website: <https://www.secp.gov.pk/document/green-bonds-guidelines/?wpdmdl=42537&refresh=60cc5ab00db441624005296>

ایس ای سی پی نے گرین بانڈز کے اجراء کی گائیڈ لائنز جاری کر دیں

اسلام آباد (جون 18) سیکیورٹیز اینڈ ایکسچینج کمیشن آف پاکستان نے پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ذریعے گرین بانڈز کے اجراء کی گائیڈ لائنز جاری کر دیں ہیں۔ گائیڈ لائنز میں بانڈز اور اجراء کی دستاویزات بمطابق سیکٹس جاری کرنے کا سہل اور فعال طریق کار واضح کیا گیا ہے۔

گائیڈ لائنز کے مطابق تمام پیشکش کنندگان جو کہ دیٹ سیکیورٹیز اور سکوکی پبلک آفرنگ یا پرائیویٹ پلیسمنٹ کے ذریعے اجراء کی اہلیت رکھتے ہیں، ریگولیٹری شرائط و ضوابط کی پابندی کرتے ہوئے گرین بانڈز کا اجراء بھی کر سکتے ہیں۔

گرین بانڈز کا اجراء ماحول میں موسمیاتی تبدیلیوں کے اثرات سے موثر انداز میں نمٹنے اور ماحول دوست منصوبوں کے لئے معاون و مددگار ہوں گے جبکہ ڈیٹ سیکیورٹیز کی شعبے کو متنوع بنانے اور سرمایہ کاروں کو ایک نئی مالیاتی پراڈکٹ بھی میسر آئے گی۔

گرین بانڈز سے اکٹھے کئے گئے فنڈز / سرمایہ صرف گرین فیلڈ منصوبوں، متبادل توانائی، ماحول کی حفاظت، قدرتی وسائل، پولیشن فری ٹرانسپورٹ اور ماحولیاتی آلودگی سے تحفظ کے منصوبوں میں ہی صرف کی جاسکیں گے۔

گرین بانڈز کے دستیاب ڈیٹا بیس کے مطابق، دنیا بھر میں اب تک ایک اعشاریہ دو ٹریلین ڈالر (\$1.2 trillion) جبکہ صرف 2020 میں 297 بلین ڈالر اور 2021 کے پہلی سہ ماہی میں 130 بلین ڈالر کے گرین بانڈز جاری کئے گئے۔ انٹرنیشنل کیپیٹل مارکیٹ ایسوسی ایشن کے مطابق اب تک 60 ممالک میں 640 گرین بانڈز کا اجراء کیا جا چکا ہے۔

پاکستان میں انٹرنیشنل کیپیٹل مارکیٹ ایسوسی ایشن اور اقوام متحدہ کے مستحکم ڈویلپمنٹ گول (UN SDGs) کے متعین کردہ معیارات کے مطابق بھی گرین بانڈز کا اجراء کیا جاسکتا ہے۔ ایس ای سی پی کی گرین بانڈز کے اجراء کی گائیڈ لائنز ایس ای سی پی کی ویب سائٹ پر <https://www.secp.gov.pk/laws/guidelines/> ہیں۔